

یہودی کس نبی کا انتظار کر رہے تھے؟



فرعون کی غلامی سے نکلنے والے خدا کے نبی حضرت موسیٰ نے اسرائیلیوں کو خدا کا پیغام سناتے ہوئے کہا میں انکے بھائیوں کے درمیان سے تیری طرح ایک نبی برپا کروں گا۔ اور اپنا کلام اسکے منہ میں ڈالوں گا جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہ افسے کہے گا، اور جو انسان میرے کلام کو جو وہ میرے نام سے کہے گا نہ مانے گا تو میں اس کا حساب اس سے لوں گا ﴿تثنیہ شرع 18:18-19﴾

مسیحی دنیا میں آج تک یہ ہی سمجھا جا رہا ہے کہ حضرت موسیٰ نے یہ بشارت حضرت یسوع مسیح کے حق میں کہی تھی۔ لیکن ایسا ہرگز نہیں مسیحی کتب مقدسہ کا مطالعہ کرنے سے معلوم پڑتا ہے کہ بنی اسرائیل یسوع مسیح کے زمانے میں بھی ایک نبی کا انتظار کر رہے تھے۔

اور یوحنا کی شہادت یہ ہے کہ جب یہودیوں نے کاہن اور لاوی اسکے پاس یہ پوچھنے کو بھیجے کہ تو کون ہے؟ تو اس نے اقرار کیا اور انکار نہ کیا، بلکہ اقرار کیا کہ میں تو المسیح نہیں ہوں۔ تب انہوں نے اس سے پوچھا پھر کیا تو ایسا ہے؟ اسے کہا کہ میں ایسا نہیں ہوں، کیا تو الہی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ نہیں۔ ﴿یوحنا 1:19﴾

تین سوالات اور انکے نہیں جوابات

۱۔ کیا تم المسیح ہو؟

نہیں

۲ کیا تم الیاس ہو؟

نہیں

۳ کیا تم الہی ہو؟

نہیں

اس واقعہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہودی منتظر تھے، المسیح، الیاس، اور الہی کے۔ یہاں ایک تبدیلی کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے اس لئے ہمیں تھوڑا موضوع سے ہٹنا پڑے گا۔

در حقیقت الہی کا انگریزی ترجمہ The Prophet ہو گا، لیکن کنگ جیمز ورژن میں الہی کی جگہ The Prophet بجائے That Prophet کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ انگریزی جاننے والے بھائی اور بہنیں خوب جانتے ہیں کہ The Prophet اور That Prophet میں کتنا فرق ہے۔ اس تبدیلی کی اصل وجہ تو میں نہیں بتا سکتا، لیکن اس سے سچائی کو سمجھنے میں ایک رکاوٹ ضرور کہہ سکتے ہیں۔

آئیے موضوع کی طرف

یہودی منتظر تھے

1. المسیح

2. الیاس

3. الہی کے

المسیح کون ہے؟

اس سوال کا جواب اس قدر آسان ہے کہ اس پر کچھ لکھنا یقیناً فضول ہو گا، آپ کسی بھی مسیحی بھائی یا بھین

انکے بھائیوں کے درمیان سے

ابراہام ﴿﴾ حضرت ابراہیم ﴿﴾ اسحاق بھائی اسماعیل اسحاق کی اولاد اسماعیل کی اولاد اسرائیل ﴿﴾ حضرت یعقوب ﴿﴾ آپس میں بھائی ہوئے؟ حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ ﴿﴾ یسوع مسیح ﴿﴾ حضرت ابراہیم کی دو بیویاں تھیں حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ۔ حضرت سارہ سے اسحاق سے حضرت ہاجرہ سے اسماعیل پیدا ہوئے جیسا کہ حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل دونوں بھائی تھے لہذا انکی اولاد بھی آپس میں بھائی ہوئے ﴿﴾ اسرائیلی اور اسماعیلی ﴿﴾۔ چونکہ اس پیشگوئی کے مطابق وہ بھودی اور اسرائیلی نہیں بلکہ انکے بھائیوں ﴿﴾ اسماعیلیوں ﴿﴾ سے ہو گا۔ انکے بھائیوں کے درمیان سے مطلب کہ اسماعیلیوں ﴿﴾ عرب ﴿﴾ میں سے تیرے جیسا ﴿﴾ تیری طرح کا ﴿﴾ سب سے پہلے ہمیں حضرت موسیٰ کے متعلق اہم باتوں کی خبر ہونی چاہیے تاکہ ہم تجزیہ کر سکیں

(1) خدا تعالیٰ نے انہیں ۴۰ سال کی عمر میں نبوت سے سرفراز کیا

(2) آپ اپنی قوم میں ایک بادشاہ کی حیثیت رکھتے تھے

(3) آپ نے اپنی امت کے ہمراہ ہجرت کی

(4) آپ کی قوم نے آپ کو خدا کا نبی تسلیم کیا

(5) آپ نے جنگیں لڑیں

(6) آپ نے شادی کی اور اولاد ہوئی

(7) آپ کی پیدائش فطری عمل سے ہوئی ﴿﴾ کسی معجزہ کے بغیر ﴿﴾

(8) آپ کا انتقال فطری طور سے ہوا ﴿﴾ آپ ناقول ہوئے اور ناہی مصلوب ﴿﴾

(9) آپ کو شریعت دی گئی

تلاش پوری ہوئی

یہاں ایک ہی ایسی مقدس شخصیت ہیں جو کہ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ ﴿﴾ یسوع مسیح ﴿﴾ کے بعد دنیا میں

آئے اور اس پیشگوئی پر مکمل طور پر پورے اترتے ہیں۔

انکے بھائیوں ﴿عرب﴾ کے درمیان سے

حضرت محمد ﷺ عرب میں سے تھے آپ حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ہیں۔

تیرے طرح کا ﴿تیرے جیسا﴾

۱۔ حضرت محمد ﷺ کو ۴۰ سال کی عمر میں نبوت ملی۔ حضرت موسیٰ کی طرح

۲۔ حضرت محمد ﷺ اپنی قوم میں ایک بادشاہ کی حیثیت رکھتے تھے۔ حضرت موسیٰ کی طرح

۳۔ حضرت محمد ﷺ نے اپنی امت کے ہمراہ ہجرت کی۔ حضرت موسیٰ کی طرح

۴۔ حضرت محمد ﷺ کی قوم نے آپ ﷺ کو خدا کا نبی تسلیم کیا۔ حضرت موسیٰ کی طرح

۵۔ حضرت محمد ﷺ نے جنگیں لڑیں۔ حضرت موسیٰ کی طرح

۶۔ حضرت محمد ﷺ نے شادی کی اور اولاد ہوئی۔ حضرت موسیٰ کی طرح

۷۔ حضرت محمد ﷺ کی پیدائش فطری عمل سے ہوئی ﴿کسی معجزہ کے بغیر﴾۔ حضرت موسیٰ کی طرح

۸۔ حضرت محمد ﷺ کا انتقال فطری طور سے ہوا ﴿آپ ﷺ نا تو قتل ہوئے اور نا ہی مصلوب﴾۔ حضرت موسیٰ کی

طرح

۹۔ حضرت محمد ﷺ کو شریعت دی گئی۔ حضرت موسیٰ کی طرح

ایک نبی برپا کروں گا

حضرت محمد ﷺ بھی خدا کے نبی تھے جس کا ثبوت بائبل میں موجود ہے مزید جاننے کے لئے وزٹ

www.mirfatehalishah.com کیجیے

اپنا کام اسکے منہ میں ڈالوں گا

قرآن مجید وحی کے ذریعہ حضرت محمد ﷺ پر نازل ہوا، اور آپ کی زبان مبارک سے لوگوں تک پہنچا۔ اگر آپ کو

خدا شہ ہو کہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں تو اس سلسلے میں آپ سے اتنی گزارش کر سکتا ہوں کہ آپ قرآن کا مطالعہ کیجئے

اور خود ہی فیصلہ کیجئے۔

اگر آپ اس تحقیق سے مطمئن ہیں تو آپ کو معلوم ہو چکا ہوگا کہ تیسری پیشگوئی ﴿النبی کی آمد﴾ حضرت محمد ﷺ کے بارے میں ہے۔

النبی	الیاس	المسیح
حضرت محمد ﷺ	یسوع مسیح نے کہا کہ وہ تو آئے اور چلے بھی گئے	یسوع مسیح ﴿حضرت عیسیٰ﴾

Article Link <http://www.mirfatehalishah.com/articles/post.php?id=2020>

Join us on facebook <https://www.facebook.com/mirfatehalishah>

www.mirfatehalishah.com